

سلسلہ کتب نمبر 5

گلدستہ مجھیں



بہادر شاہ
دعائے میں دم نہیں اب خیر عطا جان کی
جسے ظفر اب یہ بھی تیار نہیں سن کی -

خادمان ملک
غازیوں کو رہی جب ملک ایمان کی
بہ جو وہ نسل میں دستا بندی کی اس کی شہر و پور اس کی

۱۰۰ - رانی لکھنوی بابی

جس نے شہداء کے غدر میں اپنی ریاست کو بچانے کی خاطر میدان جنگ میں جان قربانی کی۔

یگانہ شرم سان فراں نسکو اریہ میں چوپ کر لیا سوئی

تعداد صلا ۱۰۰۰

قیمت فی جلد ۲۵۰ روپے

جو لوگ نام کی پرواہ نہیں کرتے صرف
 کام کی پرواہ کرتے ہیں۔ انکو نام خود بخود
 مل جاتا ہے۔ برخلاف اسکے جو لوگ صرف
 نام و رسمے کام کرتے ہیں۔ کام کی پرواہ نہیں
 کرتے۔ وہ اُلٹے بدنام ہو جاتے ہیں +

نام چاہنے والے لیڈر کی خدمت میں عرض

نام کی فروش ہے اپنی پیارے ویر نام مل جاسی ہر کام کا کیجیے
 ایسے دیے آدمی دیورڈ نامیں کوئی ساڈوں کام کو بگاڑ اپنا نام نہیں لیجیے
 نام جے توں چاہیں بھاویں کم ساڈا بند ہووے ایسے نام پچھے کیوں نہ ہو گنڈ پیجیے
 نامی بدنامی سب اچھا ہے کام سارا بھارت توں دیورڈ پھری اوں نامیں دیجیے
 ساڈوں دیورڈ اپنی تے اپ والے کام دی ہے خالی تیرے نام اوئے ایسے نہ پیجیے

کام کرنے والے لیڈر کی ضرورت ہے۔

ایسے بھی ہیں آدمی جو نام قربان کر جان قربان کردے کام لوں چلاوندے
 کسے دیش بھگت نامیں مورے کر رکھدے ہیں نام اوں والا مشہور نہیں ہواوندے
 ظالم دے پسندیاں تے پچدے ہمیش رہندے خالی نام واسطے نہ زور کوئی لاوے
 اورک دی باری جد پڑے بھی جاوندے میں سارا التزام خالی نام اوئے پاوندے

ہمیں اپنے وطن پر جان دینا بھی نہیں مشکل
تم اسکی قدر کیا جانو تمہیں ہر بات مشکل ہے۔

پریشانی کیاں کی ہم کو اطمینان حاصل ہے کہ ہم اتنے ہی تازہ دم ہیں جتنی صحت منزل ہے
مینگی گمراہی سے منزل مقصود کی راہیں - جسے پتہ ہو تم زنداں وہ ازادی کی منزل ہے
کیوں اب نہ ہو اپنی جفاؤں سے وہ باز آئیں - کہ درپردہ بیماری بھی غرض کچھ ہمیں شامل ہے
ستم یوتے ہیں یوں ہم پر کہ ہم خاموش رہتے ہیں - بیمار اضلاع بھی گویا خطا کرنے میں داخل ہے
اسیران وطن سے اُطف کچھ پوچھو اسیری کے - انہیں زندان میں سیرِ گلشنِ فردوس حاصل ہے
ایرانِ وطن کو غم نہیں اپنی اسیری کا - سمجھتے ہیں کہ اب اپنی بہت ضرورت منزل ہے
ہمارے دل سے پوچھے لہر کوئی حبِ قوی کی - کہ نشتر اپنے پہلو میں معیت آشنا دل ہے

آرزو

آرزو ہے دل میں یار و ہند بھی ازاد ہو
ہو گیا اعلانِ اب تو یوں نہ تم بھی شادی -
خونِ پیتاسانپ بن کر وہ بیماری قوم کا
اے پتھرِ دل یوں نہیں سنتا میری فریاد کی -
پر رُئے مصلوں پہ پتھر دے دیا اپنا وطن
گاریں میں بلبیل اب پھر بھی دیں میرا چین -

جیلے انگریز دے جلدے اگے بیت پیٹے اپ من کا پیوں اک دو جے نوں جلاوندے
 اپنی غرض دے ہیں لگے یوئے اپ پچھے ترے جانڈے کم نوں میں اپ الٹاوندے
 مزید فود غرضی دی اتری نہ ا جے تائیں ظلم دے تاں مال انگریز میں جھاوندے
 بھارت دا بیڑا ا جے وچے مے سمندراں دے کیوں نہ رل ویر واکیں ایس نوں تراوندے
 افسر مال لٹ دے سپاہی ناہیں پنے لگے ٹیچر مال لٹ دی میں کھلیاں اڑاوندے
 لیڈر مال لٹ جدوں یوں کے قوم والے کے چنگے آدی نوں وچے نہ گھاوندے
 جانڈے نہ اپ کوئی بات بھی عقل والی ہو زماں نوں ایو جیہی خاک سکھلاوندے
 اب دی غلطی لوں آئیکے پکڑا پے کے تہ سیر مال لوں فاونڈے
 باہ لگے چھڈ دے نہ زسری نوں پتو وچوں پتوں بھاویں پھیریں پھیریں رگڑاوندے
 سکے یو کے ٹک وائو اکڑے میں ترے پھر دے کے بدھوان اگے سیس نہ لوانڈے
 اپ تائیں ساریاں تے بدھوی سکھ کر کے انسان تے صلہ نہ پکھاوندے
 میاں مٹو من بیٹے اپنے ہی اپ یارو یور لوکاں کوں جس انیا گنواوندے
 گل بات پچھے کوئی اپ تے پریم مال اکو وائگ افسراں دے اپ فرماوندے
 ایو جیہی آدی نہ کے نوں پکھاوندے میں اپ جانی جان کے کاسنوں بلاوندے
 بات جو نکمی اویدی کوئی رد کر دا ہے او یوں بد نام کر ضائقہ جھکاوندے
 یور سب لوکاں وچے نقص تعالے میں اپنے دے تائیں اپ فوب ہی سراوندے
 اب دی تعریف جیڑا کرے پاکی آیدے مے اے دیش بھگت مشہور میں کراوندے
 اب درکیم جیڑا کرے نہ عدول یارو اوس تائیں فوب پھر پاس مے سکھلاوندے

سب بھائی اپنے نوں عمرہ جواب دیو مقرر ابیت سکو جاوے درسد وھاوندے
نیک بنتی نال بھاویں بحث نوں بے شک کر نال تاں پریم رکھو مندے مناوندے
پرکے آدی نوں کم پر قائم کرنا جس کم تائیں خود اپ لوک چاوندے
لو ملی کے نوں جے کم رتے لا دتا کدی کم اوں نوں اوہ چھگانہ بنھاوندے
جٹ وائے کم تے جو لایے تائیں بھئے دنیا دوش کینوں آو جہوں کم بگڑاوندے

کم عقل خود غرض لیڈر اپنے سے زیادہ عقل ورے
آدی کو اپنے پاس تک نہیں بھگتنے دیتے۔ صلا ح
پنے کو کر شان سمجھتے ہیر۔

مقوری عقل والے جہوں لیڈر میں بن جاندا بڑی بڑو والے نوں اور دیکھو نہ کھاوندے
دردے میں جیتے ساوی قدر نہ نفس جاوے جوئے الزامان نال اوں نوں ڈراوندے
لوکاں وچے اوں بدنام کر دین یارو کرے جتن اوہیوں دور بھجاوندے
ڈر ایہوں ایجوکتے لوکاں وچے جائیکر بڑو وال لوک میرا پاچہ نہ کھلاوندے
ایہے دیے لیڈر دے کینے لوگ گھننے تے کر کے بیانے پیر پرے کھکھاوندے
اچھا اکس کرانگے الگ جائے کم کوئی ایسی بات نال من تائیں ہر چاوندے
ایہے دیے لیڈر نوں واسطے خدائینا کامیوں دیش بھگتنوں نوں دیکھا کھاوندے
کرچے نہ سکد ایس رکھوئے صلا ح والے نیک جے صلا ح مندی لوک نہ گھراوندے
خد تائیں چھو وے مقیراؤ کو جوگ چکے خد نال کامیوں اک دوئے نوں سستاوندے

جھوٹے الزام مال شک کر ہر میرے اچھے کیے آدمیوں کو لے کر سے گزاریے
 ذاتی ہر کے مال رکھو نہیں و میرے سارے مل گئے اسیں ہند تائیں تارے
 خفیہ دے سر سینگ ہندے مال بے شک نہ میں سچ جھوٹ خوب اب سارے تارے
 خفیہ تارے دل اب جے تاک کر کوں کرے کم ہڑے چنگے سنگتے پیار بچے
 بہت لگاؤ ساری اسوں ہر تنے دی رہتو چنے لے کو اسیں کھندے ہند دھارے
 ذات پات والا نہ عالم کوئی کوں کر میں میند و مسلمان معاویہ سنگو چاہے ارے
 کلا کلا ہو سکے نہ خفیہ دے پیش پنا پارٹی بغیر پور حکم نہ سہارے
 آج دھاپی مال کہے کم نہیں مسک ہووے پارٹی دے مال دیکھو ہند دے تارے
 خفیہ نوں آکھو اسیں عالم نہ چھڈنے میں نامے دیکھے جائے بہت سی سرکارے
 جڑا نگریری نہ چھڈنی مہک وچے بچے کتے جائے فرنگی ہر کارے
 یورپ دی جنگ ہو ملک مروا دیتے اپ بچے گئے ایسے ہڑے ہر کارے
 ساریاں دا زور وچے جنگ دے لگا سکھ اپنا بچاؤ کر کہیا مہارے
 نچے چمکوں ساریاں تے ہڑا حصہ سنگتے میں پیداں پیداں اکھدے سی اسیں منہ لارے
 ملک جو دماغ والے انیاں مروا دیتے سافوں کتوں چھڈ گئے ایسے جو کھدے رے
 ہڑے ہڑے انیاں دی نہ چال نوں سمجھ سکے ساوے دیش گاتی ایتے کھدے پانی لاریے
 چال نوں سمجھ جاوے ساوے لگ جاوے لگاماں نوں کڈھ دیے اپاں بل دھارے
 طاقت صرف جتے ہندی سے ہی سڑا کرتی ہے ۔

ملک کی خاطر کسی کی منت کرنا

بھی اچھا ہے +

خاطر ملک دی تاں منت بھی کرینا دتہ جوڑیں پاؤں پر بیتی گزارے۔
جان کے بھی غلطی کر دیوے بعد آدی جو بھول اوس آکھئے تاں کاموں سوار ہے
بار بار ہے نہ بیٹایا جے تاں آدی اوہ مندی چنگی بات کوئی اوس نہ چتر ہے
رکھئے امید میر و پے امید سے سوزنے دی نال تاں نصحتاں دے اوس تائیں تار ہے
رٹھا مونیوں بولے کچھ زور ناپیں لگا دے گھر دتے مرے کانیوں زمر نال مار ہے
آخر دے دیلے تائیں مندا مونیوں بولے نہ بھڑا کی اگے ناپیں پور نہ بگاڑے۔
ایکے لے آدی نوں خفیہ نہ اکھنجا جے کائنے تائیں کانا کیدہ کے غصہ ناپیں چار ہے
ضد نال کم میر کوئی ہے بگاڑے بدھ کوئی گھٹ ایس بات نوں وچار ہے
متر بنا وگر اوس نوں نہ سکدے ہو بھیری نہ بناؤ کچھ جیتے نہ دے ہے۔
بھید والی گل کوئی اوس نوں نہ دس دینا اوس کوں پھپھر کم اب سار ہے
ویسے ویر ویسے والا کم دیو ویر و پے سرشکی تائیں ہرے سر ڈار ہے
کھئے ہر چار وچ خفیہ دواؤر ناپیں ڈر جد ہووے جھٹ پٹ لکھار ہے
ذاتی ضد پچھے جیڑا کے بدنام کرے گفتاں دے نال اوس تائیں پھٹکار ہے
میر کم وچے تاں ثبوت دی ہے پور پید ی ایس دے بنیر کے ناپیں پکھار ہے

دیکھو اوہ بھی میرے جیسے جان قربان کر دے اور مال سادے چند نوں شکاری
 خبیثی ہے نہ سرے تپتے مار ڈی بھی نہ کر بھائی صنت فوٹا مدد کا مال جھٹکار پئے
 اسی سب بھائی بھاویں اب میں میرے پیسوں انگریز تار میں رکھے ونگار پئے
 ظالموں دے یہ جدا میں لڑ بیٹھے میں ظالم نوں فائدہ اسیں اب نوں نگہار پئے
 جگ مشور کیتا اب میں لڑ دے میں ڈب کیوں نہ جانے اسیں دے فی فوار پئے
 دے کے شراب ساووں عقل نوں کھس پتا بن کے شرابی اب جوئے میں خمار پئے
 اسیں ہندو باسی سادے کی کم کھیتے ہیں آدو بدشاں والا حال جھٹکار پئے ۔

ایک ہی مقصد مختلف طریقوں سے حاصل کیا
 جا سکتا ہے ۔ اب میں لڑنے میں طاقت میں
 صالح کرنی چاہئے ۔ جدا جدا طاقتیں ایک
 کو من دشمن کے خلاف استعمال کرنی چاہئیں ۔
 نیک نیتی نے اختلاف رائے ممکن ہے ۔
 بد نیتی کام کی دشمن ہے ۔

اب دے جے مال نہ صلاح ملے دوسرے دی سکھتے نہ ہندو اوس تائیں کچھ بویے
 رکھتے امیر جاو گیا اوہ مال سادے مال پریم اور یہی ضد تائیں گویے
 زورے مناوے نہ بول کوئی من سکے عقل پریم مال گول گندھ کھو پئے ۔

انگریزوں دے بھتی نال دو باتیں

بھوئیہ ہندو باسی تیرے دل نہ ترس اوے چھڈ کے ایہوں گتے گیوں غمخوار رہے۔
 کھال تے پلنگ نے مکھار دتا ملک سارا تیرا دل بھیریا نہ بھڑیئے بہار رہے۔
 تیری ولوں بھارت مکھار انگریز دیوے تیرا پیٹ ہوے خود غرض بیتیا رہے
 لوک زمیندار تان کنگال ہوئے ملک وچے تینوں تان مرے بن بیٹوں دروار رہے
 بدھی انگریز دیوے فون تیرے بھائیوں دا بھئے نہ ایس کانیوں جیب چھار رہے
 بھائیوں دا فون پیا ظالماں پلادوناں سیاحت وچے سوچے پے بات فون نہار رہے
 سب فون ایہ مار دے میں اندھا دے دندے نال ساڈوں پیا گھانا فغ ہو گیا بھوچار رہے
 او بھائی گئے لگ بھائی جی بلدوندے میں دل مل بنیو جاو سمجھے بھائی چار رہے
 بھائی جی بلدوندے میں گل پڑ پادندے میں نذر بھادندے میں موت کھار رہے
 اس کردی غرض خود ریو نہ غرض جان اپنا غرض اگے اپ بھتار رہے۔
 تان سمجھا باہی ظالماں نے جو کو کو کو چھڈو ایس سمجھو تائیں کیہ کے نکار رہے۔
 لوکاں دے ملک ہند دے میں ازاد بھائی ساڈا کیوں نہ ہو وجہ وں خندان کیوں وار
 تیرے نال ہوو جیہڑی لوکاں نال تیرے آئی اچے مہر وید بھیرھی زبردی کڈ رہے
 سنے دیش گھاتی راجے مئے میں بدیشی سب اسیں میٹ دنیا ایس بات فون نکار رہے
 راجے ایہ بدیشی نامیں ملک میں ہمیشہ رسی ایس راجے میٹ دیش گھاتی نہ نہکار رہے
 ہم یاراں دوزخ بشت چٹا ہم یاراں ایس راجے خاطر نہ پیر فون پسا رہے۔

اک جند اپنی لڑوں سکو وچے رکھنے لڑوں میں تے کرور والا گل کٹ ڈاریا
 اسان نے لحاظ کر جیڈیاسی اوس تائیں ساڈے می لحاظ چک اسان تائیں ماریا
 اسان تاں ترس ایتا بھائی ساڈا ماریئے نا۔ چنگا کم ظالماں نے بھائی پانوں ساڈا
 اک پیٹ واسے ماریئے انیک لوک اُنیاں دی نہ ریس کیتی جہاں جگ تاریا
 شہدوں کی روح پکار پکار کہہ رہی ہے۔

جیکر ویر ساڈے بیرینا دیش گھاتیاں توں ویر نامیں ساڈے جیکر بیرنوں واریا
 قسم سریر دی نہ جائے دیش گھاتی یارو پارٹی دا خوف جن مول نہ وچاریا
 مہلی گل بدلہ دی پنا تیں ٹھیک ویر وچے کئے شجاولے جن سانوں لکھاریا
 پنج ویر بے مے اوس تائیں ویر میرے پاوے نامیں کھانے جاوے جگ توں ونگاریا
 بدلہ جو یسی ساڈا ظالماں لڑوں کس دیسی ساڈے والا دکھ جاوے اپ ہی نواریا
 اوے افسوس جیوں ویر لکھارنا ہے اکیس انگریز کامیوں لگیں ہتھیاریا
 سانوں لڑو دیکھ رلایا مال خاک جہاں چال نہ تیں جانی بے ایمان بڈھے بھاریا
 سانوں مروایا تیتوں تینوں کنڈاوسا توں ڈنگراں دے وانگ تینوں ظالماں نے چلویا
 لوکاں نے ملک بیت جان قربان کیتی کیتوں جم آیا دیش گھاتی او لکھاریا
 دنیا رنڈ وچے بے دیش گھاتیا او بھارت دے دکھ نے نہ تینوں چھکاریا۔
 پیری تینوں پار کے رلایا مال آپدے ہے پورائے خبر امیں دوکانوں چھاریا

دیش گھاتی کیر پال سندھ نے کرتار سندھ اور اسکے ساتھیوں کو

پھانسی دلویا۔

بالکل جھوٹا دوتے پیٹ جیڑا کر جاوے اس تائیں چھیرٹا کا یوں گندگی پھریے۔
 کوئی نہ مدد جیڑا اپ تائیں دیو خدا ہے اچھی گل کپہ کے اب راستہ میں پھریے۔
 کام جو الگ پھیرے اب سے نہ ضد ہووے اپسین ضد پا کے وقت کو نہ پھریے۔
 اپنے ملحق تائیں سب کوئی ٹھیک آکھے کے دے پڑا آکھے کوئی نہ جو لیے۔
 کوئی چپ چاپ کم کرے کوئی شور مال کم پڑا جاوے اب مل نڈیں ڈو لیے۔
 کم دو کو کر دے جے لڑنے دا فائدہ کی ضد وچے اسیر پڑوے نہ پھریے۔
 دل مل کم ذوں پھار میں سب لوک ایسی تدبیر اب دل کے ٹو لیے۔
 افسری غلامی دے کم پڑیں چگا پڑا ذائقہ نہ اوے لڑو کھی چیزوں جو لیے۔

شہیدان وطن کی وصیت

جنا چر جیندے رہے کم اسیں اپو کیتا اپنا سریر اسان تان اتے داریا
 اگے باری تان دی سنبالو دیرو اپ پین ایتنا سندھیہ اسیں تان نوں پھاریا
 اپنی عقل نال اسان نے سہی کم کیتا اپنی ولاں تے اسیں گھٹ نہ گذاریا
 دیش گھاتی نے دوست بن کر دھوکا دیا۔
 بن کے تے تر کما یاد غاسا دے نال ایسے ہی بھلیکیاں نے اسان تائیں ماریا

شہیدان وطن - کرتار سنگھ - کانشی رام - وشو گنیش پنگھ
 مولیٰ رحمت علی شاہ - کوہن لال - جیون سنگھ - جگت سنگھ - کپھر سنگھ اور دوسرے
 دیش بہت مندوستان کی خاطر قربان ہوئے۔ بیمارا کیا مرضی ہے؟

دیکو اوہ بھی مٹرے جیسے جان قربان کر دے اور دل نال ساڑے چند نوں شکاری
 چنگی جے نہ سرے تیتے ماری بھی نہ کر بھائی منٹ فوٹ مد و نال جھٹکار پئے
 اسیں سب بھائی بھاویں ابس میں بھر موروں پیدل انگریز تائیں دل کے ونو ر پئے
 ظالماں دے جے جد اس لڑ بھڑے میں ظالم نوں فائدہ اسیں اپ نوں نگہار پئے
 جگ مشور کیتا ابس میں لڑ دے میں ڈب کیوں نہ جانے اسیں دے فی فوار پئے
 دے کے شراب ساووں عقل نوں کس پتا بن کے شرابی اچھوئے میں خمار پئے
 اسیں یزد باسی ساڑے کئی کم کئے میں آو بدشاں والا جال جھٹکار پئے ۔

ایک ہی مقصد مختلف طریقوں کے حاصل کیا
 جاسکتا ہے ۔ ابس میں لڑنے میں طاقت میں
 صلح کر لی چاہئے ۔ جدا جدا طاقتیں ایک
 کو من دشمن کے خلاف استعمال کر لی چاہئیں ۔
 نیک نیتی نے اختلاف راے ممکن ہے ۔
 بد نیتی کا من کی دشمن ہے ۔

اب دے جے نال نہ صلاح ملے دوسری ٹکڑے نہ ہنڈا اوں تائیں پکڑ پئے
 رکھئے امیر جاو گیا اوہ نال ساڑے نال تان پریم اوہی ضد تائیں گویے
 زور سے مناوے نہ بول لائی من کے عقل پریم نال گول گنڈہ کھو پئے ۔

انگریزوں دے بھتی نال دو باتیں

جو کئی بندہ ہاں تیرے دل نہ ترس اوے جھڈے ایہوں گئے گیوں غوار پئے۔
 کال تے پلنگ نے مکا دتا ملک سارا تیرا دل پیریا نہ بھڑ پئے بہار پئے۔
 تیری ولوں بھارت مکا دتا انگریز دپے تیرا پیٹ ہوے خود غرض پتیا د پئے
 لوک زمیندا وٹاں کنگال ہوئے ملک وچ تینوں تاں مرے بن بیٹوں دروار پئے
 بدھی انگریز دی ہے فون تیرے بھائیوں دا پچھے نہ ایس کائیوں جیب چھار پئے
 بھائیوں دا فون پچھا ظالماں پلا وٹاں سی چت وچ سوچے پئے بات فون نہار پئے
 سب فون ایہ مار دے میں اندیا دے دندے نال ساڈوں پیا گھانا فغ ہوگی ہر پار پئے
 او بھائی گئے لگ بھائی جی بلووندے میں دل مل بنیو جاو سبھے بھائی چار پئے
 بھائی جی بلووندے میں گل پلو پاوندے میں نذر پیاوندے میں سو منہ کار پئے
 اسں کردی عرض خود ریونہ عرض جان اپنا عرض اگے اپ مجتار پئے۔
 تہاں سمجھا باہے ظالماں نے جو کو کو تو جھڈو ایس سمجھ تائیں کہہ کے نہار پئے۔
 لوکاں دے ملک بندے ائے میں ازاد بھائی ساڈا کیوں نہ ہو وجہ وں جنداں اسں وار پئے
 تیرے نال ہوو جیہڑی لوکاں نال بندہ آئی اچے مہر وید پیرھی زبردی کڈار پئے
 سنے دیش گھاتی راجے میں بدیشی سب اسیں میٹ دنیا ایس بات فون غار پئے
 راجے ایہ بدیشی نا میں ملک میں ہمیشہ رسی ایس راجے میں دیش گھاتی نہ نہکار پئے
 ہم یاراں دوزخ بہشت چٹا ہم یاراں ایس راجے خاطرہ پیر فون ہر سار پئے۔

GADAR

A Newsletter of the Gadar Memorial Center, 5 Wood Street, San Francisco, Ca 94117 Independence Day Issue 15 August 1993


EIGHTIETH ANNIVERSARY OF THE GADAR PARTY

As we celebrate India's forty-sixth birthday as a free nation, it is important to remember the pioneers, leaders and the devoted workers of a historical movement during the early part of this century that lit the first spark of revolution and set the stage for India's freedom struggle. It is also the eightieth anniversary year of the founding of the Hindustan Gadar Party.

Hindustan Gadar Party was formed in San Francisco in 1913 and was an important force in India's freedom struggle. It disseminated its message through a powerful weekly paper called *Gadar* printed in Urdu, Punjabi, Gujrati, English, Mandarin and German to promote the cause of Indian independence. The party with world-wide network dedicated itself to **unity, secularism and social justice** and through examples of selfless commitment to such ideals inspired a new generation of freedom fighters in India.

Printed below is an excerpt of "India's Independence Vow" from *Ghadar Dhandora* of May 1930 originally published in Nanking, China. The vow, under the direction of Mahatma Gandhi and the National Congress, was adopted in thousands of meetings all over the country. The adoption of this vow was inspired by the valiant deeds of Gadar Party heroes and marked the dawn of a new era launching the nation into a life and death struggle for the restoration of its birthright.

"We believe that it is divine and inviolable right of the Indian people, as of any other people, to have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life so that they may have full opportunities of growth. We believe also that if any government deprives a people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or abolish it. The British Government in India has not only deprived the Indian people of their freedom but has based itself on the exploitation of the masses, and has, bankrupted India economically, politically, culturally and spiritually. We believe, therefore, that India must sever the British connection and attain Purna Swaraj or complete independence"



DEATH OF A HERO

When Kartar Singh Sarabha was waiting in his cell to be hanged, his grandfather came to visit him. He was sad seeing his 19 year old grandson in the solitary cell. He wanted to persuade young Sarabha to appeal for an amnesty. Sarabha asked him, "How did such and such person die?"

His grandfather replied, "He died of cholera after suffering a lot."

"And how diddie?" inquired Sarabha. "Of fever, after a long suffering."

Sarabha kept asking about various people who had died before him and his grandfather kept telling him of the various deceases they died of.

"Don't you think my death is going to be more glorious and meaningful than theirs? Surely you don't want me to die after rotting for a long time like them!!" Sarabha said in a calm voice.

PROMISE WRITTEN IN BLOOD

It was August 1943. Netaji Subhash Chandra Bose came to speak before a fully packed hall in Rangoon. He challenged all present there to give everything to free India. "Freedom demands sacrifice from all of you. It demands every thing- all that you

have: wealth, intellect, life. You have already given a lot. Gold, strength of your arms and your heart. But the thirst of the Goddess of freedom can not be quenched with these things alone. The Goddess of freedom needs the mad worshippers who can offer flowers of their heads. The history of victory in the battle of freedom is written with the ink of blood. Give me blood and I promise you that I will give you freedom."

The youths in the hall shouted. "We will give our blood. Long live freedom." Netaji looked at them and said, "I have an affidavit form. Let's see who signs that to sacrifice everything."

"Don't you have faith in us, Netaji?" asked one of the young men in the crowd.

Netaji explained, "Today we are not going to sign the affidavit in ink. This is the affidavit of freedom to be offered at the feet of Mother India. It has to be signed with blood. Only those should sign it who consider their life as flowers to be offered at the feet of Mother India."

The crowd got up and answered in one voice, "We will give our blood, we will give our blood."

Seventeen women got up and went to the podium. They took daggers out, pierced through their fingers and signed the affidavit. Others followed, people belonging to all parts of India, people belonging to all religions, people speaking many languages. They all came forward to sign their names in blood.

"Wait now," said Netaji. He asked them to mix everyone's blood in one pot. Then each one dipped their pens that pot and signed the affidavit declaring that they would sacrifice all they had to free India. The blood of Sikhs, Muslims, Hindus, Christians - the blood of Marathas, Bengalis, Gujaratis and Dravids - all together, all as one.

It is appropriate to remember that today. Freedom was won by sacrificing the blood of those belonging to all castes, creeds, colors and religions. Freedom was won by a united people. Today, when India is torn apart by divisiveness and religious bigotry, there is the danger that our hard-won freedom may well be lost. More than ever we have to fight bigotry as one people again.

Calendar

The following are just some of the programs and events being planned at the Center in the near future. For schedule and additional information please call either (510) 527-7981 or (415) 567-0555.

September 1993

Commencement of classes in Beginning Hindi/ level I & level II

September 1993

Commencement of classes in Beginning Punjabi/ level I & level II

September/October 1993

Classes on Indian Vocal Music Rita Sahai

September 1993

Classes in Indian Classical Dance by Kunhiraman

November 21, 1993

Martyr's Day Celebrations

Spring 1994

Children's BOOK FAIR

March 23, 1994

Shaheed Day/ cultural & music program

Gadar Memorial Steering Committee strives to organize programs like panel discussions and talks by visiting scholars and activists on subjects of interests related to events in India. Your ideas for future programs are most welcome. Events are generally publicized in the relevant local Indian media.

Editorial Board

Ved Prakash Vatuk, Ravi Anand, Maharaj Kaul
Amrik Singh & Syed Saifullah
Gadar welcomes letters and commentary articles dealing with issues of interest to the readers.

Send your thoughts to:

Gadar

5 Wood Street
San Francisco, Ca 94117

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION event has been coordinated by the **Gadar Memorial Steering Committee** with the support and cooperation of the following Bay Area organizations: **Punjabi People's Cultural Association, Coalition Against Communalism, Indians for Collective Action, Seva and Indo-American Community Senior Center.** All organizations hold regular meetings and welcome your support and active participation. Following is a brief description of the organizations and respective contact phone numbers:

GADAR MEMORIAL STEERING COMMITTEE is dedicated to keep the heritage of Gadar and Independence movement alive and its spirit of total economic, social and cultural independence vibrant by which the dream of an India free of casteism, racism, religious bigotry, regionalism and linguistic chauvinism as envisioned by Gadarites and other freedom fighters. It has celebrated many national events in memory of our martyrs. Its program includes classes in Indian languages, music, dance and culture. For more information call (415) 567-0555 or (510) 527-7981

PUNJABI PEOPLE'S CULTURE ASSOCIATION was founded in 1986 to promote Indian culture and to fight against religious fundamentalism and separatist movements. It works closely with fraternal organizations in India, Canada and Britain. It spreads its message of communal harmony, unity and secularism as well as social justice through cultural programs. Call (510) 674-0974

COALITION AGAINST COMMUNALISM was founded in December 1992 by concerned people of Indian origin after the demolition of Babri Mosque. CAC is committed to promoting communal harmony, and to reversing the increasing communal polarization in the Indian community in the San Francisco Bay Area, USA and in India. It strongly supports a united and secular India based on equality, freedom and social and economic justice. Call (510) 601-6929

INDIANS FOR COLLECTIVE ACTION (founded in 1968) has been active for 25 years in supporting a wide variety of development projects in India at the grass root level. It supports social activists and volunteer organization in India working with people to change the country for the better. ICA disburses all funds it collects for its projects focusing on long term development fully involving people. It avoids projects with direct religious and political affiliation. Call (408) 985-6843

SEVA USA (founded in 1991) supports development in the areas of basic education, women's welfare, health, rural technologies and environmental issues in India on a non-sectarian and non-discriminatory basis. Seva works with five organizations in north and south India.

INDO-AMERICAN COMMUNITY SENIOR CENTER (established in 1988) provides comprehensive multi-service programs to seniors including health information, socialization and recreation. It advises senior on matters related to social security and law. ICSC's goal is to facilitate seniors to conduct and participate in a variety of programs and to create a support structure. Its members - now numbering 300- hold regular frequent meeting in a variety of locations. Call (415) 325-0691

The following quotes are excerpted from **INDIA'S VOICE** of September 1943 published at Hindustan Gadar Party Headquarters at 5 Wood Street, San Francisco:

Enslave the liberty of but one human being and the liberties of the world are put in peril.

- **Lloyd Garrison.**

He that would make his own liberty secure must guard even his enemy from oppression.

- **Thomas Paine**

Guarding the rights of others we guard our own.

- **Chester Rowell, S.F. Chronicle, June 26, 1939**

Gadar Newsletter

5 Wood Street

San Francisco, Ca 94117

I am enclosing a check in the amount of \$ 5.00 for a one year subscription to *Gadar*

Name _____

Address _____

City _____

State _____

Zip _____

Bulk Rate
U.S. Postage
P.A.I.D.
Fremont, CA
Permit No. 255